

بازرگانیہ کی براوہو بہ دست

ہاتوو

لہ وتہو کردہوہی لہ سوننہ تدا

ہاتوو

تاماہہ کرمان و وەرکیرانہ

م. ہیمن ئہحمد

پہاچونہ و ہا

م. صلاح الدین عبدالکریم/چہمچہ مال

لہ بلاوکر اوہکانی مالپہری ئیمان و ہن

www.iman.com

چاپی دووهم : ١٤٣٢ ك / ٢٠١١ ز

ژماره‌ی سپاردن :

B مافی چاپکردن و له‌به‌رگرتنه‌وه‌ی پارێزراره.

بنکه‌ی بلاوکردنه‌وه

کتیبخانه‌ی زانست
که‌لار

کتیبخانه‌ی سیما
چه‌مه‌مال

کتیبخانه‌ی ئیمان
سایمانی

کتیبخانه‌ی سونه
سایمانی

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

خَيْرُ مَا يَسِطُرُهُ الْقَلَمُ، حَمْدُكَ اللَّهُمَّ عَلَى جَزِيلِ النِّعَمِ،
وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى نَبِيِّ خَيْرِ الْأُمَمِ، مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ
وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ.

بهراستی خوای گه وره فه زلّ و چاکه ی ئیمه ی داوه به سه ر
گشت دروست کراوه کانی تری به وه ی که زمانی قسه کردنی
داوه پیمان، ئه وه ش به خششیکه به کارئه هینری له خیرو
چاکه و شه پو خراپه دا، جا هه رکه سی به کاری بهیننی له خیرو
چاکه دا ئه وا له دنیا دا به خو شگوزهرانی و به خته وه ری و له
به هه شتدا به شوین و پله ی به رزی ئه گه یه نیت، وه هه رکه سی
له چاکه دا به کاری نه هیننی ئه وا به ره و هیلاکه ت و به دب ختی
ئه بات له دونیا و دوارپوژدا، وه بزانه باشترین شت که تو
زمانی تیدا به کاربینی له هه مووکات و ساتیکدا له دوا ی
خویندنی قورئانی پیروز بریتییه له زیکرو یادکردنی خوای
گه وره، که بیگومان له م باره وه فه رموده ی زور هاتوو که

هانمان ده دات له سه ر زۆر زیکر کردن، وه له م فه رمودانه ش:

مَثَلُ الَّذِي يَذْكُرُ رَبَّهُ وَالَّذِي لَا يَذْكُرُ رَبَّهُ مَثَلُ الْحَيِّ وَ الْمَيِّتِ (متفق عليه). واته: نمونه ی ئه و كه سه ی كه یادی خوی گه وره ئه كات وه ئه و كه سه ی یادی ناكات، وه ك نمونه ی زیندو و مردویكه . هه روه ها خوی گه وره له فه رموده یه کی قودسیدا ده فه رمویت: (أنا عند ظنِّ عبدي بي وأنا معه إذا ذكّرني فإن ذكّرني في نفسه ذكّرتُه في نفسي، و إن ذكّرني في مالا ذكّرتُه في مالا خيرٍ منهم، و إن تقربَ إليَّ شبراً تقربْتُ إليه ذراعاً...)(البخاري). واته: من به گویره ی گومانی به نده كه مم وه من له گه لیدام به بینین و بیستن و ئاگایی کاتی كه یادم ئه كات، ئه گه ر ئه و له ناخ و نه فسی خۆیدا باسم بکات و یادم بکات، ئه و ا منیش له نه فسی خۆمدا یادی ئه كه م، وه ئه گه ر ئه و له لای خه لك و پیاو ماقولان یادم بکات ئه و ا من له لای كه سانیکي باشت ر یادی ده كه م، وه ئه گه ر بیته و به نده كه م بستیک لیم نزیك بیته وه ئه و ا من بالیک لیبی نزیك ده بمه وه ... وه له فه رموده یه کی ترده ئه فه رموی: (سَبَقَ الْمُفْرَدُونَ، قالوا:

وَمَا الْمَفْرَدُونَ يَا رَسُولُ اللَّهِ؟ قَالَ الذَّاكِرُونَ اللَّهَ
 وَالذَّاكِرَاتُ (مسلم). واتہ: پیش کہ وتن ئہ و کہ سانہ (المفردون)
 وترا ئہ ی پیغہ مبهری خودا ۳ کین ئہ وانہ؟ فہ رموی ئہ وانہ ی
 کہ زیکرو یادی خوی گہ ورہ زور دہ کہن لہ پیاوان و
 ٹافرہ تان. ہہ روہا خو شہ ویستمان ۳ لہ ٹاموژگاری کردنی
 یہ کی کدا فہ رموی (با بہ رده وام زوبانت بہ زیکر و یادی خوی
 گہ ورہ تہ پ بیت) (الترمذی).

له سودو که لکه کانی زیکر و یادی خوای گه وره

یادکردنی خوای گه وره شهیتانی نه فرین لیکراو دهرئه کات و کپی ئه کاته وه، وه په زامه نندی خوای گه وره ی تیا به، هه روه ها خه م و خه فته له ناو دلدا ناهیللی، خووشی و شادی و کامه رانی بو دل ئه هیئی، دل و دهر وون و دهم و چاو و جهسته به هیز ئه کات و پووشن و پرشنگذاری ئه کاته وه، وه ده بیته هوئی زیادبونی پزق و پووزی، هه روه ها ئه و که سه ی یادی خوا ئه کات خاوه ن خووشی و گه شاوه یی و شکومه ندی یه، وه خووشه یستی و چاودیری و گه پانه وه یه بو لای خوای په روه ردگار، وه دورکه و تنه وه و سلکردنه وه له نه هیه کانی خوای گه وره له ناخ و دل و دهر وون ئه چیئی، هه روه ها پونی و په وانی و زیندویه تی به دل ئه به خشی، که ئه وه هیزیکه بو دل و روح. وه به نده ئه گه ر له کاتی ئاسایی و هیمنیدا خوای ناسی و یادی کرد، ئه وا خوای گه وره له کاتی ته نگانه و ترس و له رزدا ئه یناسی و له بیریه تی که پزگارکردنیه تی له سزای خوئی. وه زیکرکردن هوکاریکه بو دابه زینی دل نه وایی و

ہیمنی و ہاتنی پرحمہ تی خوی پەرہردگار، وہ بہ ہوی
 زیکرکردن زمان سہرقالّ ئەبّی و دور ئەبّی لہ غەیبەت کردن و
 قسہ ہیئان و بردن و درۆ و زۆر بلّی و قسہ ی بی سودو بی
 مانا و سەرجم ئەو تاوانانہ ی کہ بہ زمان ئەکرین.
 بہ راستی یادکردنی خوی گەرہ ئاسان ترین پەرستشہ، وہ
 لہ گەرہترین و بہرّیزترینانہ،

وہ بریتیه لہ نہمامہکانی بہہشت، وہ یادکردنی خوی
 گەرہ ئەبیتہ نور و پوناکی لہ دونیاو ناوقہ برو دوارۆژدا بۆ
 ئەو کہ سانہ ی کہ ئەنجامی دەدەن. سەرہ پای ہەموو
 ئەوانەش پیغەمبەر ۳ ئەفہرموی: (ئایا ہەوالتان دەمی لہ
 باشترینی کردہ وہ کانتان، وہ پاکترینیان بی لای
 پەرہردگارتان و دەرہ جەتانی پی بەرزبیتہ وہ، وہ باشتر
 بیت لہ بہ خشینی زیرو پارہ، وہ باشتر بیت بۆتان لہ جیہاد
 کردن؟ وترا بہ لّی: فہرموی: ئەوہ یادی خوی گەرہیہ
 (ذکر اللہ) (الترمذی) و صحیح فی صحیح الجامع برقم (۲۶۲۹).

**ئیسْتاش هه نَدِیْک له و زیکرو^(۱) کرداران هه
ده خهینه روو، که پاداشتی گه وره هه یه بو
ئه نجام ده رانیان له لایهن خوای گه وره وه به
ئومییدی سود وهرگرتن لییان انشاءالله**

۱- موتابه عه کردنی بانگ بیژو وتنه وهی دواى نه وو
خویندنی نزای دواى بانگ: پیغه مبه ر ۳ ئه فه رموی: -
(هه رکه سیک گوئی له بانگ بی و پاشان بلی: (اللَّهُمَّ رَبَّ هَذِهِ
الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ وَالصَّلَاةِ الْقَائِمَةِ آتِ مُحَمَّدًا الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ
وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدْتَهُ) ئه و ئه بم به شه فاعه تکار
بوئی له پوژی دوایدا.) (صحیح) فی صحیح الجامع
برقم (۶۴۲۳).

(۱) (تیبینی: هه موو ئه وفه رمودانه ی که هاتووون ده رهینراون له (صحیح الجامع
الصغیر) ی شیخ ئه لبانی (ره حمه تی خوای لیبت)).

۲- جوان دست نویژ شوشتن (له سه رسونه ت) :

پیغه مبه ر ۳ ئە فه رموی: (هەر که سیك دەست نویژ بشوات به باشترین شیوه ئەوا گوناوه کانی له به دەنی ئە بنه وه هه تا وه کو ئە وه ی له ژیر نینۆکه کانی شیه تی) (صحیح) فی صحیح الجامع برقم (۶۱۶۹).

۳- نزای دوای دهست نویژ گرتن:

پیغه مبه ر ۳ ئە فه رموی: (هەر که س له ئیوه دەست نویژ بشوات به باشترین شیوه و پاشان بلی (أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله) ئەوا هەر هه شت ده رگا کانی به هه شتی بو ده کرینه وه و ئە چیتته ناویه وه له هەر ده رگایه کیانه وه بیه وی.) (صحیح) فی صحیح الجامع برقم (۶۱۶۴).

۴- زۆر هه نگاوانان له رۆیشتندا بو مزگه وت:

پیغه مبه ر ۳ ئە فه رموی: هه رکه سیك بچیت بو نویژی جه ماعت ئەوا به هه ر هه نگاوانیکی تاوانیکی لی رهش ده بیته وه و چاکه یه کی بو ئە نوسری له رۆیشتن و

گه پارانوه شیدا) له مزگه وت. (صحیح) فی صحیح الجامع برقم (۶۴۰۵).

۵- خوشوړینی روژی هه یینی:

پیغه مبه ر ۳ ئەفه رموی: هه رکه سیك له روژی جومعه دا خوئی بشوات و زور زوو و به پی بروات بو مزگه وت و نزيك ببیته وه له ئیمام و گوئی لیبگریت و قسه نه کات، ئەوا به هر مهنگاوئیکی که دهی نیت بو مزگه وت پاداشتی یه ک سال نویت و روژووی هه یه. (صحیح) فی صحیح الجامع برقم (۶۳۶۲).

۶- پاریزگاری کردن له سه ر سوننه ته رهواتبه کان (المؤکد) ی

پیش و پاش نویتزه فه رزه کان: پیغه مبه ر ۳ ئەفه رموی: هه ر که سیك له شه و و روژیکدا (۱۲) رکعات نویتزی سوننه ت بکات ئەوا بینایه کی له به هشت دا بو دروست ده کریت } ۴ رکعات پیش نویتزی نیوه رو و ۲ رکعاتی دوایی، ۲ رکعات دوای ئیواره (المغرب)، ۲ رکعات دوای نویتزی خه وتنان، ۲ رکعات پیش نویتزی به یانی. (صحیح) فی صحیح الجامع برقم (۶۲۶۵).

۷- پاریزگاری کردن لهسه رگه یشتن به الله اکبری نویژ

دابهستن (تکبیره الاحرام): پیغه مبه ر ۳ ئە فه رموی:

هه رکه سیك (۴۰) رۆژ له سه ر یه ك نویژه كانی به جه ماعت بکات بۆ خوی گه وره و به (الله اکبر) نویژ دابهستن پراگه یشت ئەوا له دوو شت پرزگاری ده بیئت، پرزگار بون له ئاگرو پرزگار بون له دوو پووی. (صحیح) فی صحیح الجامع برقم (۶۳۱۷).

۸- نویژ کردن لهسه ر مردو و پاشان رۆیشتن له گه ئی تا

دهشاردریته وه: پیغه مبه ر ۳ ئە فه رموی: (هه رکه سیك له سه ر

جه نازه یه ك ئاماده بیئت تا وه كو نویژی له سه ر ده کریت، ئەوا پاداشتی قیراتیکی بۆ هه یه، وه هه رکه سیك تا ئە شاردریته وه ئاماده بیئت ئەوا پاداشتی دوو قیراتی بۆ هه یه، وترا دوو قیرات چی یه ؟ فه رموی نمونه ی دوو چپای گه وره ن). (صحیح) فی صحیح الجامع برقم (۱۱ ۶۱).

۹- خویندنی نایہ تی کورسی :

پیغہ مبر ۳ ئە فہ رموی: (ہہ رکہ سیئک نایہ تی کورسی بخوینی
 لہ پاش ہہ موو نوئژہ فہ رزہ کان ہیچ شتیئک ریگری لی ناکات
 لہ چونہ ناو بہ ہہ شتی تہ نہا مردن نہ بی) (واتہ کہ مرد
 ئە وکات دە چیتہ بہ ہہ شت) (صحیح) فی صحیح الجامع
 برقم (۶۴۶۴).

۱۰- وتنی (سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ): پیغہ مبر ۳ ئە فہ رموی:
 (ہہ رکہ س بہ یانیان وئیواران (۱۰۰) جار بلئی (سُبْحَانَ اللَّهِ
 وَبِحَمْدِهِ) ئەوا ہہ موو گوناہہ کانی رەش دە بنہ وہ ئە گہر بہ
 ئە ندازہ ی کہ فی سہر دە ریاش بی، وہ ہیچ کہ سیئک لہ پوژی
 دواپی دا لہو باشتر نایہ ت بہ ہوی ئەو ویردہ وہ تہ نہا کہ سیئک
 وەکو ئەو یان لہو زیاتری وتبیت). (صحیح) فی صحیح الجامع
 برقم (۶۴۳۱).

۱۱- وتنی (سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ):

پیغه مبهەر ۳ ئەفه رموی (دوو وشه ی سوک و ئاسانن له سهەر زوبان، سه نگین له ته رازوو دا، وه خۆشه ویستن له لای خوای گه وره .) (صحیح) فی صحیح الجامع برقم (۶۴۲۹).

۱۲- به پۆژوو بونی (۳) پۆژ له هه موو مانگی کدا {مه به ست له

۱۳، ۱۴، ۱۵ ی هه موو مانگی کی عه ره بی یه } و پۆژی عه ره فه و

پۆژی عاشورا:

پیغه مبهەر ۳ ئەفه رموی: (به پۆژوو بونی (۳) پۆژ له هه موو مانگی کدا و له په مه زانه وه بو په مه زانیکی تر به پۆژوو بونی سالیکیه) (صحیح) فی صحیح الجامع برقم (۶۰۳۱)، (وه پرسیار کرا له به پۆژوو بونی پۆژی عه ره فه فه رموی گوناھی سالیکی پیش و سالیکی داهاتوو ره شه شه ئە کاته وه) (صحیح) فی صحیح الجامع برقم (۷۲۵۳)، وه پرسیار کرا له به پۆژوو بونی پۆژی عاشورا فه رموی گوناھی سالیکی رابردوو ئە بات) (صحیح) فی صحیح الجامع برقم (۷۲۵۴).

۱۳- وتنی (سید الإستغفار) له به یانیان و ئیواران دا :

پیغه مبهەر ۳ سه بارهت بهم دوعا گه وره یه: (اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ ، خَلَقْتَنِي وَأَنَا عَبْدُكَ ، وَأَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ ، وَأَبُوءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ ، وَأَبُوءُ بِذَنْبِي فَاغْفِرْ لِي فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ) فەرمویه تی: (هه رکه سیکی له رۆژ دا ئەم ویرده بخوینیت و ئەو رۆژه مرد پیش ئەوهی ئیواره داییت ئەوا له ئەهلی بههشته، وه هه رکه سیکی له شهو دا به دانیایی یهوه بیلی ئەو شهوه مرد پیش ئەوهی بهیانی بکاته وه ئەوا له ئەهلی بههشته.) (صحیح) فی صحیح الجامع برقم (۳۶۷۴).

۱۴- ئە نجامدانی نوژی بهیانی به جه ماعت و مانه وه له

مزگهوت بۆ زیکر و عیبادت کردن تا رۆژه لات: پیغه مبهەر ۳ ئە فەرموئی: (هه رکه س نوژی بهیانی به جه ماعت بکات، پاشان له مزگهوت بمینیته وه تاکو خۆرهلان، ئینجا دوو پکعات نوژی بکات، ئەوا پاداشتی وه ک حه ج و عومره یه کی

ته‌واو ته‌واو ته‌واوی هه‌یه). (صحیح) فی صحیح الجامع
برقم (۶۳۴۶).

۱۵- وتنی (سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ **عَدَدَ خَلْقِهِ** وَرِضًا نَفْسِهِ وَزِنَةَ
عَرْشِهِ وَمِدَادَ كَلِمَاتِهِ): پیغه‌مبهر ۳ ئەفه‌رموی: (به‌پاستی
له‌دوای تو سیّ جار چوار وشه‌م وت: (مه‌به‌ست له‌م ویرده‌ی
سه‌ره‌وه)، ئە‌گه‌ر بی‌ت و پیوانه‌ بکری‌ت به‌وه‌ی تو ئە‌م‌پرو
خویندوته له‌ زیکره‌کان، ئە‌وا پیوانه‌ ئە‌کری‌ت) (صحیح) فی
صحیح الجامع برقم (۵۱۳۹). (ئ‌وه پیغه‌مبهر صلی الله علیه
وسلم به‌یه‌کیک له‌ خیزانه‌کانی وت، که له‌ دوای نویژی به‌یانی
له‌ مزگه‌وت مابوو به‌و زیکر و عیبادت کردن تاوه‌کو
پۆژه‌ه‌لات).

۱۶- ده‌ست که‌وتنی گه‌نجینه‌ی به‌ه‌شت:

پیغه‌مبهر ۳ ئەفه‌رموی: (ئایا گه‌نجینه‌یه‌ک له‌ گه‌نجینه‌کانی
به‌ه‌شتان پی‌رانه‌گه‌یه‌نم؟ وترا به‌ئی، پیغه‌مبهر ۳ فه‌رموی:
وتنی: (لَا حَوْلَ ، وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ). (صحیح) فی صحیح الجامع
برقم (۷۸۲۰).

۱۷- کہ فارہ تی کو رو مہ جلیس :

پیغہ مبر ۳ ئە فہ رموی (ہہ رکہ سیئک لہ ناو کو پریک دانیشتی و دەنگی لیوہ ہاتبی و قسہی زور کردبی، جا پیش ئەوہی لہ کو پڑہ کہ ہہ لسابی، ئە مہی خویندی) **(سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ)** ئەوا ئیلا خوی گہورہ لیی خو ش دەبی، لہوہی لہو کو پڑہ دا وتبیہ تی). (صحیح) فی صحیح الجامع برقم (۶۱۹۵).

۱۸- **وتی (لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ)**: پیغہ مبر ۳ ئە فہ رموی: (ہہ رکہ سیئک پوژی (۱۰۰) جار ئەم دو عایہ بلی ئەوا (۱۰۰) چاکہی بۆدہ نوسری و (۱۰۰) تاوانی لی رەش دەبیئہوہ، وہ ئەو پوژہی بۆ ئەبیئہ قہ لایہک و لہ شہیتان ئەی پاریزی ہہ تاوہ کو ئیوارہ دادیئ وہ ہیچ کہ سیئک لہو باشتر نایہت ئیلا مہ گہر کہ سیئک لہو زیاتری وتبیئ). (صحیح) فی صحیح الجامع برقم (۶۴۳۷).

۱۹- وتنی (سُبْحَانَ اللَّهِ، الْحَمْدُ لِلَّهِ، اللَّهُ أَكْبَرُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ)

دوای ہہ موو نویرٹیکئی فہرز: پیغہ مہر ۳ ئە فہرموی: (ہہر کہسی له دوای ہہ موو نویرٹیکئی فہرز} ۳۳ جار سبحان اللہ، ۳۳ جار الحمد لله، ۳۳ جار اللہ اکبر} بخوینئ، کہ دہ کاتہ ۹۹، وہ بیکات بہ ۱۰۰ بہ وتنی (لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ)، ئەوا خوای گہورہ له ہہ موو گوناہہ کانی دہبوری، ئەگہر بہ قہد کہ فی دہریش زور بی). (صحیح) فی صحیح الجامع برقم (۶۲۸۶).

۲۰- سہ لاوہت دان لہ سہر پیغہ مہر ۳ :

کہ ئە فہرموی: (ہہر کہس یہک سہ لاوہتم لہ سہر لی بدات ئەوا خوای گہورہ ۱۰ سہ لاوہتی لہ سہر لی دہدات، وہ ۱۰ گوناہی لی رہش ئە بیئہ وہ، وہ ۱۰ پلہ بہرز ئە کریتہ وہ، وہ ۱۰ چاکہی بو ئە نوسری) (صحیح) فی صحیح الجامع برقم (۶۳۵۹) وہ باشترین سہ لاوہت دانیش ئە مہیہ (اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ وَكَأَنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ

مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَعَلَىٰ آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ
مَجِيدٌ).

۲۱- گه وره یی (سُبْحَانَ اللَّهِ):

پیغه مبه ر ۳ ئە فه رموی: (به وتنی ۱۰۰ جار (سُبْحَانَ اللَّهِ)
هه زار خیری بو ئە نوسری، یان هه زار تاوانی لی رهش
ئە بیته وه.) (صحیح) فی صحیح الجامع برقم (۲۶۶۵)

۲۲- ته وقه کردن له کاتی به یه ک گه یشتندا:

پیغه مبه ر ۳ ئە فه رموی: (هه ردوو موسلمان که به یه ک ئە گه ن
و ته وقه ئە که ن ئیلا خوی گه وره لیان خوشده بی پیش
ئە وهی لی ک جیا بینه وه.) (حسن) فی صحیح الجامع
برقم (۵۷۷۷).

۲۳- سه ردانی نه خوش:

پیغه مبه ر ۳ ئە فه رموی: (هه ر موسلمانیک سه ردانی
نه خوشیکی موسلمان بکات له به یانی دا، ئە وا هه فتا هه زار
فریشته سه لاوه تی له سه ر ده دن تا ئیواره، وه هه رکه س له
ئیواره دا سه ردانی بکات، ئە وا هه فتا هه زار فریشته

سہ لاوہ تی لہ سہر دہ دہن تاوہ کو بہ یانی، وہ بوئی دہ بیئتہ
خہ زینہ یہ کہ لہ بہ ہشت دا). (صحیح) فی صحیح الجامع
برقم (۵۷۶۷)

۲۴- خیری ریزی یہ کہ می نوژی جہ ماعت:

پیغہ مہر ۳ ئەفہ رموی: (ئہ گہر ہاتباو خہ لکی بیان زانیبایہ
کہ خیری ریزی یہ کہ می جہ ماعت چہ ندہ یہ، پاشان ئەوہ یان
دہست نہ کہ وتایہ ئیلا بہ تیرو پشک (قورعہ) نہ بوایہ، ئەوا
بویان دہ کرد). (صحیح) فی صحیح الجامع برقم (۵۳۳۹)

۲۵- قہرز دان بہ بی سود (ربا) (بدون فوائد):

پیغہ مہر ۳ ئەفہ رموی: (ہہر موسلمانیک (دوو جار) قہرز
بدات بہ موسلمانیک ئەوا وہ کو ئەوہ وایہ کہ جاریکیان بہ
خیر (صدقہ) دابیہ تی. (صحیح) فی صحیح الجامع
برقم (۵۷۶۹)

۲۶- گہ یاندنی خزمایہ تی (صلة الرحم):

پیغہ مبر ۳ ئە فہرموی (ہہرکەسی کہ دە یهوی پزق و پۆزی فراوان بی و تەمەنی درێژ) پەرە کەت) بی، ئەوا با سەردانی خزمەکانی بکات. (صحیح) فی صحیح الجامع برقم (۵۹۵۶).

۲۷- داواکردنی بەهەشت و خۆپەناگرتن لە ئاگر:

پیغە مبر ۳ ئە فہرموی (ہہرکەسی (۳) جار داوا ی بەهەشت بکات، ئەوا بەهەشت ئەلی پەرەردگارا بیخەرە بەهەشتەو، وەهەرکەس (۳) جار خۆی پەناگری لە ئاگر ئەوا ئاگر پی ئەلی پەرەردگارا بیپاریزە لە ئاگر.)

۲۸- خۆیندنی قورئان:

پیغە مبر ۳ ئە فہرموی (خۆیندنی سورەتی ﴿! " #

\$ % & ') (* + , -

0 / 1 2 3 ﴿ سورة الإخلاص، بہقەد

سییەکی قورئان هەیە. (صحیح) فی صحیح الجامع

برقم (۴۴۰۵)، وہ دہ فہ رمویٰ (خویندنی سورہتی) ﴿﴾ ! "

\$ % & ' () * +

, - . / 0 1 2 3 4 5 6 7

9 8 : ; < = > ? @ ﴿﴾ سورہ

الکافرون، خیری بہ قہ د خویندنی چواریہ کی قورئان ھیہ (حسن) فی صحیح الجامع برقم (۶۴۶۶) وہ دہ فہ رمویٰ (ہرکس له پوژی جومعه دا سورہتی (کھف) بخوینیٰ ئہوا بوی دہ بیته نور و پوژنایی له بهینی دوو جومعه دا) (صحیح) فی صحیح الجامع برقم (۶۴۷۰).

۲۹- پاداشتی بانگ دهران:

پیغہ مبر ۳ ئہ فہ رمویٰ: (ھیچ کہ سانیک نییہ له جنوکه کان و مروقه کان و ہرشتیکی تریش کہ گوئیان له بانگ بی ئیلا له پوژی دوایدا شاہیدی بؤ دہ دن) (صحیح) فی صحیح الجامع برقم (۲۴۵۰). وہ دہ فہ رمویٰ: (بانگ دهران له پوژی دوایدا

گہردنیان لہ ہہموو کہس دریژترہ). (صحیح) فی صحیح
الجامع برقم (۶۶۴۵)

۳۰- نویرژی بہ کومہل (جہماعہت):

پیغہمبہر ۳ ئہفہرموی: (ئہنجامدانی نویرژہ فہرزہکان بہ
کومہل خیر و پاداشتی بہ (۲۷) پلہ زیاترہ لہ ئہنجامدانی
نویرژہ کہ لہ مالہوہ بہ تہنیا). (صحیح) فی صحیح الجامع
برقم (۳۸۲۰)

۳۱- ئہنجامدانی نویرژی خہوتنان (العشاء) و بہیانی بہ

جہماعہت: پیغہمبہر ۳ ئہفہرموی: (ہہرکہس نویرژی
خہوتنان بہ جہماعہت ئہنجام بدات، ئہوا و ہکو ئہوہ وایہ کہ
شہو تا نیوہی شہو شہو نویرژی کردبی، و ہہرکہس نویرژی
بہیانیش بہ جہماعہت ئہنجام بدات، ئہوا و ہکو ئہوہ وایہ کہ
ئہو شہوہ ہہرنہ خہوتبی و شہوہ کہ ہہموی شہو نویرژی
کردبی). (صحیح) فی صحیح الجامع برقم (۶۳۴۱).

۳۲- کردنی نویژہ سوننہ تہ کان بہ شاراوہیی (واتہ لہ

مالہوہ):

پیغہ مبر ۳ ئہ فہرموی: (کردنی نویژہ سوننہ تہ کان بہ شیوہ یہ ک خہ لک نہت بینئ) (واتہ لہ مالہوہ) بہ قہ د (۲۵) پلہ یہ بہ رامبر بہ وہی کہ لہ بہر چاوی خہ لکہ وہ بیکہیت (واتہ: لہ مزگہوت)). (صحیح) فی صحیح الجامع برقم (۳۸۲۱).

۳۳- سوننہ تی پیش نویژی بہ یانی و فہرزی بہ یانی:

پیغہ مبر ۳ ئہ فہرموی: ((دوو رکعات سوننہ تی پیش نویژی بہ یانی خیری باشترہ لہ ہموو دونیا و ئہ وہی کہ تیشی دایہ.)) (صحیح) فی صحیح الجامع برقم (۳۵۱۷)، وہ دہ فہرموی: (ہرکس نویژی بہ یانی بکات ئہ وا لہ ژیر پہ یمان و بہ لینی خوی گہ ورہ دایہ.) (صحیح) فی صحیح الجامع برقم (۶۳۴۳).

۳۴- دوعای چونہ بازار:

پیغہ مبر ۳ ئە فہ رموی (ہرکس چوو بو بازار و ئەم دوعایہی خویند: (**لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ، لَهُ الْمُلْكُ ، وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِي وَيُمِيتُ ، وَهُوَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ**) ئەوا ہزار ہزار (واتہ: ملیونیک) چاکہی بو دهنوسری، وہ ہزار ہزار خراپہی لی پەش دەکریتەوہ، وہ ہزار ہزار پلہ بہرز دەکریتەوہ وہ خانویہ کی لە بەهشت بو دروست دەکریت (حسن) فی صحیح الجامع برقم (۶۲۳۱)

۳۵- فہزل و پاداشتی زانا (عالم):

پیغہ مبر ۳ ئە فہ رموی: (فہزلی عالم لەسەر خواپہ رست وەکو فہزلی من وایہ بەسەر نزمترینتان دا. و دە فہ رموی: (بہراستی خوی گہورہ و فریشتہکانی و ئەہلی ئاسمانہکان و زہوی و ہتا میروو لہ کونہ کہیدا و ہتا حوتیش، سہلاوہت لەسەر ئەو کہ سہ لیدہ دەن، کہ خەلکی فیبری کاری خیر دەکات). (صحیح) فی صحیح الجامع برقم (۴۲۱۳).

۳۶- داوای شہید بوون لہ خوای گہورہ بہ راستگوئی:

پیغہ مبر ۳ ئە فہرموی: (ہرکہسی داوای شہید بوون بکات بہ راستگوئی ئەوا خوای گہورہ دەیگہ ینیتہ شوین و پلہی شہیدان ئەگەر چی لەسەر جیگاگہی خوئی بمرئ).
(صحیح) فی صحیح الجامع برقم (۶۲۷۶).

۳۷- دوای دوانان خواردن و جل و بہرگ لہ بہرکردن:

پیغہ مبر ۳ ئە فہرموی: (ہرکہسی خواردنی خوارد و پاشان ئەم دوایہی خویند { **الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَطْعَمَنِي هَذَا**
وَرَزَقَنِيهِ مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِنِّي وَلَا قُوَّةٍ } ئەوا خوای گہورہ لہ
ہموو گوناہہکانی رابردوی خوئ دەبی). وہ دەفہرموی:
(ہرکہسی لہکاتی جل و بہرگ لہ بہرکردن دا بلی { **الْحَمْدُ**
لِلَّهِ الَّذِي كَسَانِي هَذَا الثَّوْبَ وَرَزَقَنِيهِ مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِنِّي وَلَا
قُوَّةٍ } ئەوا خوای گہورہ لہ ہموو گوناہہکانی رابردوو و
دواتریشی خوئ دەبی). (حسن) فی صحیح الجامع
برقم (۶۰۸۶).

۳۸- گوی رایہ لی نافرہت بو میړدہ کہی:

پیغہ مبر ۳ ئە فہرموی: (ئە گەر نافرہت پینج نویژہ فہرزہ بکات، وہ مانگی پرمہ زان بہ پۆژوو بی، وہ داوینی خوی پاریزی، وہ گوپرایہ لی میړدہ کہی بکات ئەوا پیی دہوتری بچو ناو بہ ہہشتہ وہ بہ ہر دہرگایہ کدا بی لہ دہرگاکانی بہ ہشت کہ خۆت دہتہ ویت) (صحیح) فی صحیح الجامع برقم (۶۶۰).

۳۹- چاکہ کردن لہ گہل دایک و باوک:

پیغہ مبر ۳ ئە فہرموی: (باشترین کردہ وہ لای خوی گہورہ ئە نجامدانی نویژہ کانہ لہ کاتی خۆیدا، وہ چاکہ کردنہ لہ گہل دایک و باوکدا) (صحیح) فی صحیح الجامع برقم (۱۰۹۴)

۴۰- کہ فالہت کردنی یہ تیم (بی باوک):

پیغہ مبر ۳ ئە فہرموی: (ہہرکہ سییک کہ فالہتی (سہرپہرشتی) یہ تیمیک بکات، ئەوا لہ بہ ہشت دا لہ گہل من و ہک پەنجہی شایہ تمان و پەنجہی ناوہ پراستہ واتہ وا لیک نزیکین). (صحیح) فی صحیح الجامع برقم (۱۴۷۵).

۴۱- خوو رهوشتی جوان (حُسن الخلق):

پیغه مبه ر ۳ ئه فهرموی: (به راستی ئیماندار به هوی
 رهوشتی جوانیه وه پلهی دهگاته پلهی ئه وانهی که پوژوو گر
 وشه و نویژ کهرن) (صحیح) فی صحیح الجامع برقم (۱۹۳۲).

حوکمی هه ندیک له و تاوانانه ی که پیغه مبهەر ۳ نه هی لی کردون

۱- درۆکردن:

پیغه مبهەر ۳ ئەفه رموی: (به پرستی درۆ به ره و خراپه کاریت ده بات وه خراپه کاریش به ره و ئاگر ده تبات، وه خه لکی درۆ ده کهن و بهرده وام له سه ری ده پۆن هه تا لای خوای گه وره به درۆزان له قه لم ده درین) (صحیح) فی صحیح الجامع برقم (۴۰۷۱) وه ده فه رمویت: (وهیل بو ئه وکه سه ی که شتیکی درۆ ده گیریتته وه، بو ئه وه ی خه لکی پی پی بیکه نن، وهیل بو ئه و، وهیل بو ئه و) (حسن) فی صحیح الجامع برقم (۷۱۳۶).

۲- نوشته کردن و شت هه لئواسین بو چاوه زار:

پیغه مبهه ر ۳ ئەفه رموی: (به پراسستی نوشته کردن) (ئه ونوشته یه ی که مانای دیارنیه و ته له زمه یه) وه شت هه لئواسین (وهک میروه شینکه و نالی کهر و شتی تریش) وه نوشته ی سیحری بو خوشه ویستی و له یه ک کردن (دل)

رہ شکردن) ہرہہ مویمان شیرک و ہاوہل دانانن بوّ خوای
 پەرور دگار) (صحیح) فی صحیح الجامع برقم (۱۶۳۲) وہ
 دہ فہرموی: (شوم کردن شہریک پیداکردنہ بوّ خوا)
 (صحیح) فی صحیح الجامع برقم (۳۹۶۰).

۳- باسکردنی پاشہ ملہ (غہیبہت):

پیغہ مبر ۳ ئە فہرموی (ئایا ئە زانن غہیبہت چی یہ؟
 فہرمویان خوای گہورہ و پاشان پیغہ مبرہ کہی دہ زانن،
 فہرموی: باسی براکہت بکہی بہوہی کہ پیی ناخوشہ،
 فہرمویان ئە گہر ئەو شتانہی کہ باسمان کرد تییدا ہہ بوو؟
 فہرموی ئە گہر تیایدا ہہ بوو ئەوا غہیبہتت کردووہ، ئە گہرنا
 بوہتانت بوّ کردووہ) (صحیح) فی صحیح الجامع برقم (۸۶).

۴- خو بہزل زانین (التکبر):

پیغہ مبر ۳ ئە فہرموی: (ئەو کہسہی توّزقالہ زہرہ یہک خو
 بہزل زانینی تیدابیت، ناچیّتہ بہہ شتہوہ)، و ترا بہراستی
 پیایوی وا ہہ یہ پیی خوشہ جل و بہرگ و پیلاؤ و نہ علی
 جوان و باش بیت، فہرموی خوای گہورہ جوانہ و جوانیشی

خۆش دهوئ، به لām خۆبه زل زانین ئه وهیه که دان به هه ق
دانه ئی و په تی بکاته وه و به چاوی سوک سهیری خه لکی
بکات. (صحیح) فی صحیح الجامع برقم (۷۶۷۴).

**۵- رۆیشتنه دهره وهی ئه و ئافره تهی که خوی بۆن خوش
کردبی:**

پیغه مبه ر ۳ ئه فهرموئ (هه ر ئافره تیك بۆن به خۆیدا بکات و
بجیته دهره وه، پاشان به لای کۆمه له خه لکیکدا تیپه پری
بۆئه وهی بۆنی بکه ن، ئه وا وه ک ئه وه وایه که زینای کردبی،
وه هه موو چاویکیش زینا ده کات) (صحیح) فی صحیح الجامع
برقم (۲۷۰۱).

۶- خیانه تکردنی ده سه لاتدار له دار و ده سه تکهانی:

پیغه مبه ر ۳ ئه فهرموئ: (هیچ به نده یه ک نیه که خوای
گه وره کردبیته سه ره رشتیکار به سه ر که سانیکه وه و
خیانه تی لی کردبن، وه بمری له سه ر ئه و حاله، ئه وا ئیلا
خوای گه وره به هه شتی له سه ر هه رام ده کات.) (صحیح) فی
صحیح الجامع برقم (۵ ۷۴۰).

۷- ئهو ئافره تهی که داوای ته لاق دهکات به بی عوزر:

پیغه مبه ر ۳ ئه فهرموی: (هر ئافره تیگ داوای ته لاق له میرده که ی بکات به بی هیچ هوکاریک، ئهوا ته نانهت بوونی به هه شتیشی لی حه رامه.) (صحیح) فی صحیح الجامع برقم (۲۷۰۶).

۸- په یوه ندی برین له نیوان موسلماناندا:

پیغه مبه ر ۳ ئه فهرموی: (حه لال نیه بو بروادار که له (سی) پوژ زیاتر قسه له گهل براکه یدا نهکات، وه هه رکهس زیاد له (۳) پوژ قسه له گهل براکه یدا نهکات و لهو حاله ته دا بمری ده چیته ئاگره وه.) (صحیح) فی صحیح الجامع برقم (۷۵۵۹) وه ده فهرموی (هه رکه سیگ سالیگ قسه له گهل براکه ی نهکات ئهوا وه کو ئه وه وایه که خوینی رشتبی). (صحیح) فی صحیح الجامع برقم (۶۵۸۱).

۹- دوو زمانی (قسہ ہیئان و بردن):

پیغہ مبر ۳ ئە فہرموی: (ئە و کەسە ی کە قسە ئە ہیئە و ئەبات لە بەینی خە لکیدا (بە مە بەستی بەین تیکدان و فیتنە یی) ناچیتە بە هە شتە وە .) متفق علیہ .

۱۰- قبول ئە بونی تە و بە لە بیداعە چی: پیغہ مبر ۳

ئە فہرموی: (بە پراستی خوای گە و رە مە نعی تە و بە لە هە موو خاوەن بیداعە یە دە کات، و اتا لئی گیرا نابیت). (صحیح) فی صحیح الجامع برقم (۱۶۹۹).

۱۱- سە یرکردنی قە دە غە کراوە کان (المحرمات):

پیغہ مبر ۳ ئە فہرموی: (نوسراوە تە وە لە سەر مرۆ قە کان توشبونیان بە زینا، جا ئە وە ی هەر پی دە گات و پزگاری نابیت، چاوە کان زینایان سە یرکردنە (نە زەر)، وە زینای گویش گو یگرتنە (لە شتی خراپ)، زینای زوبان قسە ی خراپە، وە زینای دلێش ئارە زوو و خۆزگە ئە خوازئ بە شتی خراپ، وە فەرچیش ئە مە بە پراست دە گە یە نیت، یان بە درۆی دە خاتە وە). (صحیح) فی صحیح الجامع برقم (۴۴۷۶).

۱۲- چه لال کردنی موسیقا:

پیغه مبه ر ۳ ئە فه رموی: (هه ندیک له ئوممه تی من په یدا ده بن زینا و ئاوریشم و مهی (ئاره ق) و موسیقا (المعازف) چه لال ده کهن) (صحیح) فی صحیح الجامع برقم (۵۴۶۶) (المعازف هه موو جوړ و ئامیره کانی موسیقا ده گریته وه)

۱۳- خواردن و خواردنه وه به دهستی چه پ:

پیغه مبه ر ۳ ئە فه رموی: (با هیچ کامیک له ئیوه به دهستی چه پ نه خوات و نه خواته وه، چونکه به راستی شهیتان به دهستی چه پی ده خوات و ده خواته وه). (صحیح) فی صحیح الجامع برقم (۷۵۷۹).

۱۴- بانگہ وازی کردن بو گومرایی :

پیغہ مبر ۳ ئہ فہ رموی: (ہہرکہ سیئک بانگہ وازی بکات بو کاریکی خراپ و گومرایی یہک ئہوا تاوانی ئہوانہ شی لہ سہرہ کہ شوینی ئہکہون بیئ ئہوہی لہ تاوانی شوین کہوتوہکانی کہم بیئہوہ) (صحیح) فی صحیح الجامع برقم (۶۲۳۴).

۱۵- سویند خواردن بہ غہیری خوا :

پیغہ مبر ۳ ئہ فہ رموی (ہہرکہ سیئک سویند بہ غہیری خوای گہورہ بخوات ئہوا بہ راستی کوفری کردووہ یان شہریکی بو خوا پیداکردووہ). (صحیح) فی صحیح الجامع برقم (۶۲۰۴).

۱۶- سود خواردن (اکل الربا) :

پیغہ مبر ۳ (لہ عنہتی کردووہ لہو کہسہی کہ ربیا دہخوات و ئہوہشی کہ سووہ کہ دہدات وہ شاہیدہ کہشی و نوسہر) (کاتب) ہکہشی ہہمویان وہک یہک وان لہ تاوانہ کہدا) (صحیح) فی صحیح الجامع برقم (۵۰۹۰) وہ دہ فہ رموی: (ئہو پیاوہی کہ یہک درہم ربیا دہخوات وہ دہشزانی کہ ربیایہ، لہ (۳۶) زینا خراپ ترہ). (صحیح) فی صحیح الجامع برقم (۳۳۷۵).

۱۷- خواردنہ وہ بہ پیوہ:

پیغہ مبر ۳ (قہدہ غہی کردوہ کہ بہ پیوہ بخویہ وہ) (صحیح) فی صحیح الجامع برقم (۶۸۸۷) وہ پیغہ مبر قہدہ غہی کردوہ کہ فوو بکریت بہ خواردن و خواردنہ وہ (بو سارد کردنہ وہی) (صحیح) فی صحیح الجامع برقم (۶۹۱۳).

۱۸- فہ خر و شانازی کردن:

پیغہ مبر ۳ ئە فہ رموی: (بہ راستی خوی گہ ورہ وہ حی بوناردوم کہ ئیوہ بی فیز) (متواضع) بن، تاوہ کو ہیچ کامیک لہ ئیوہ خوی بہ گہ ورہ نہ زانی و فہ خر و شانازی نہ کات بہ سہر یہ کیکی ترہ وہ) (حسن) فی صحیح الجامع برقم (۱۷۲۵).

۱۹- خراپی حہ سودی:

پیغہ مبر ۳ ئەفہ رموی: (حہ سودی بہ یکتہ مہ بہن) رواہ أبو داود.

۲۰- خوارد نہ وہی سہ رخوشکہر:

پیغہ مبر ۳ ئەفہ رموی (خوای گہ ورہ بہ ہشتی لہ سہ رسی کس حہ رام کردووہ, ۱- ئەوکہ سہی کہ بہ رده وام سہ رخوشہ (مودمین), ۲- ئەوہی دایک و باوکی ئازار دەدات, ۳- دەییوس) (صحیح) فی صحیح الجامع برقم (۳۰۵۲), وہ دەفہ رموی: (ہہرکس مہ شروبی سہ رخوشکہر بخواتہ وہ ئەوا (۴۰) رۆژ عیبادہ تی لی قبول ناکری). (صحیح) فی صحیح الجامع برقم (۶۳۱۲).

۲۱- دوژمنایہ تی کردنی دوستانی خودا:

پیغہ مبر ۳ ئەفہ رموی: (خوای گہ ورہ دەفہ رموی: ہہرکس دوژمنایہ تی دوستیکی من بکات, ئەوا ئیعلانی شہری لہ گہل دا دەکەم). (صحیح) فی صحیح الجامع برقم (۱۷۸۲).

۲۲- تهرك كردنى جومعه و نويژى عهصر: پيغه مبه ر ۳

ئه فه رموى: (ههركهس سى جومعه بچوینى به كه م ته رخه مى ئه وا خواى گه و ره مۆر له سه ر دلى لیده دات.) (صحيح) في صحيح الجامع برقم (۶۱۴۳) وه ده فه رموى: (ههركهس نويژى عهصر تهرك بكات ئه وا كرده وه كانى هه لده وه شينه وه) (صحيح) في صحيح الجامع برقم (۶۱۴۶).

۲۳- وتنى قسه يهك كه خواى گه و ره توپه بكات:

پيغه مبه ر ۳ ئه فه رموى: (وه به راستى جارى واهيه به بنده كه م وشه يه كى وا ده لیت كه خواى گه و ره ی پى توپه ده بى و ئه ویش گووى پى نادات، ئه وا به هۆيه وه حه فتا پايه له ئاگرى دۆزه خ دا ده سوتى) (صحيح) في صحيح الجامع برقم (۱۶۱۸).

۲۴- خوشوبه اندن به بى باوه ران:

پيغه مبه ر ۳ ئه فه رموى: (ههركهس خوى بشوبه ينى به وان ئه وا له وانه) (صحيح) في صحيح الجامع برقم (۶۱۴۹) وه ده فه رموى (ئه و كه سه ی كه خوى به غه يری ئيمه

دہشوبہینی، لہ نئمہ نییہ) (صحیح) فی صحیح الجامع
برقم (۵۴۳۴) ئەم خوُشوبہاندنہش زور لایہن دہگریتہ وہ،
وہک { لہ دیندا، لہ ہہلسوکہ و تدا، لہ جل و بہرگ و شیوازدا،
لہ مامہ لہ و خوِرہ و شتدا، ہتد } .

۲۵- نہو کہ سہی کہ پیی خوشبی خہ لکی لہ بہری ہہستن:

پیغہ مہر ۳ ئە فہرموی: (ہہرکہ سی پیی خوشبی و حہزی
لیبی خہ لکی لہ بہری ہہلسن، ئەوا با شوینی خوئی لہ ناگر
دیاری بکات). (صحیح) فی صحیح الجامع برقم (۵۹۵۷)

۲۶- تہرک کردنی صہ لاوہت لیدان لہ سہر پیغہ مہر ۳ :

کہ دہ فہرموی: (بہ خیل ئەو کہ سہیہ کہ ناوی منی لہ لا
دہ ہینری، صہ لاوہتم لہ سہر لی نادات). (صحیح) فی صحیح
الجامع برقم (۲۸۷۸).

۲۷- پیش خستنی دونیا بہ سہر ناخیرہ تدا:

پیغہ مہر ۳ ئە فہرموی: (ہہرکہ س ہہم و غہمی دونیا
بی، ئەوا خوای گہ ورہ ہہ ژاری دہ خاتہ بہینی چاوہ کانہیہ وہ،
وہ ئیشہکانی لی پہرپوت دہکات و ہیچیشی بو نایہ ئیللا
ئہوہ نہبی کہ بوئی تہقدیر کراوہ) (صحیح) فی صحیح الجامع
برقم (۶۵۱۰).

۲۸- وینہ گرتن :

پیغہ مبر ۳ ئەفہرموی: (ہر کہ س وینہ یەك دروست بکات ئەوا بەھوی ئەو وینہ وە سزا دەدریّت لە پۆژی قیامەتدا هەتاوہ کو پوحی بە بەردادەکات، کہ ئەوہش ناتوانی...)

(صحیح) فی صحیح الجامع برقم (۶۳۷۰), وە دەفہرموی: (بە ئیشتیرین سزا لە پۆژی قیامەتدا بو وینہ گرانہ، وە پێیان دەوتریّت چۆن دروستت کرد ئاواش پوحی بە بەردا بکہ)

(صحیح) فی صحیح الجامع برقم (۶۳۷۰), وە دەفہرموی: (فریشتە ناچیّتە مالیکە وە کہ وینہ یان سەگی تیا بیّت)

(صحیح) فی صحیح الجامع برقم (۱۵۶۳).

٢٩- گوى گرتن له خه لك له په نايه كه وه (جاسوسى) :

پيغه مبه ر ٣ نه فہرموى: (هہرکەسئ گوى له خه لك بگرئ بہ شيوہ يه كه پييان ناخوش بيٽ كه ئه و كەسە گويئ ليگرتون، ئه وا قورقوشم دەكرئت بہ گوئيڊا) (صحيح) في صحيح الجامع برقم (٦٠٢٨).

٣٠- رؤيشتن بؤ لاي فالچى و جادوو گه ران:

پيغه مبه ر ٣ نه فہرموى: (هہرکەس بجيٽ بؤ لاي ئه ستيړه ناسيک (جادوويه) يان نهين زانيک وه باوه ر بہ قسه كاني بکات، ئه وا كافر بووه به و قورئانه ي كه بؤ محمد ٣ دابه زيوه) (صحيح) في صحيح الجامع برقم (٥٩٣٩).

وه ده فہرموى: (هہرکەس بجئ بؤ لايان پرسيارى شتيكيان لئ بکات، ئه وا چل شه و نويژئ لئ قبول ناکرئ) (صحيح) في صحيح الجامع برقم (٥٩٤٠).

٣١- خوشوبه اندنى پياوان به نافرەتان يان نافرەتان به

پياوان: پيغه مبه ر ٣ نه فہرموى: (ئه و پياوه ي كه خوى به نافرەتان بجويئئ له ئيمه نى يه، وه ئه و نافرەتەش كه خوى

بہ پیوان دہ چوینیٰ لہ ئیمہ نییہ) (صحیح) فی صحیح الجامع
برقم (٥٤٣٣).

٣٢- بچرانندی خزمایہ تی:

پیغہ مبر ٣ ئہ فہ رموی: (ئہ وکہ سہی کہ سیلہی رحم
بچرینیٰ ناچیتہ بہ ہشتہ وہ) (صحیح) فی صحیح الجامع
برقم (٧٦٧١).

٣٣- سویند خواردن لہ مامہ ئہ دا:

پیغہ مبر ٣ ئہ فہ رموی: (سویند خواردن برہو بہ مامہ لہ
دہ دات بہ لام بہرہ کہ تی ناہیلئی) (صحیح) فی صحیح الجامع
برقم (٣١٨٣).

٣٤- نہ فرین کردن:

پیغہ مبر ٣ ئہ فہ رموی: (نہ فرین کردن لہ بروادار وہ کو
کوشتنی وایہ) (صحیح) فی صحیح الجامع برقم (٧١٠),
وہ دہ فہ رموی (ناکری؁ بؤ کہ سیکی راستگو کہ نہ فرینکار بی)
(صحیح) فی صحیح الجامع برقم (٧٧٧٤)

۳۵- لہ خوبایی بوون (العجب):

پیغہ مبر ۳ ئە فہرموی: (سی شت بہ هیلاک بہرن: ۱- شوین
کہوتنی ئارہ زووہ کان، ۲- بہ خیلی بردن، ۳- ئە و کہ سہی
کہ لہ خوئی بایی ئە بی و بہ خوئی دہنازی) (حسن) فی صحیح
الجامع برقم (۳۰۳۹).

۳۶- تہنہا بوون بہ ئافرہتی بیگانہ (الخلوہ):

پیغہ مبر ۳ ئە فہرموی: (با یہ کیک لہ ئیوہ بہ تہنہا لہ گەل
ئافرہتیک نہ مینیتتہوہ، چونکہ شہیتان سییہ میانہ. (بہ مانای
کہ شہیتان زہ فہریان پی دەبات) (صحیح) فی صحیح الجامع
برقم (۲۵۴۶).

له کۆتاییدا سوپاسی خوای گهوره دهکهم که یارمهتی دام بو
دوباره له چاپ دانهوهی ئەم نامیلکەیه، وه داواکارم ئیی بۆم
بکات به تۆیشوی پۆژی دوایی و پر خێرو بهرهکەتی بکات،
بهوهی که موسلمانان سویدی زۆری ئی وهربگرن، به جی به جی
کردنی زیکر و کاره باشهکان، وه دورکهوتنهوهیان لهو کاره
خراپانهی که باسم کردون و هه موو کاریکی تری
قه دهغه کراو له شه ریهتی پاکی نیسلام دا. وه ده بی هه موو
لایه ک نه وهش بزانی که هه موو نهو شتانهی باسکراون له
فه رموده پیرۆزه کانی پیغه مبهردا هاتوون و قسه و رای هیچ
که سیکی تر نیه.

والحمد لله رب العالمین وصلى الله وسلم على نبينا

محمد وآله وصحبه أجمعين.

چاپی دووه تهاو بووله ٢٢ ٥ شعبانی ١٤٣١ بهرامبه ر ٢-٨-٢٠١٠ ز

هه میشه له گه ئمان بن بۆنوی بوونه وهی ئیمان

imanonekurd@yahoo.com